

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَ

نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ

اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ عِلْمَ أَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا

مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَ

آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ

آخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ اقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا وَ مَا تَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَ أَعْظَمُ أَجْرًا وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ (20)

Thy Lord doth know that thou standest forth (to prayer) nigh two-thirds of the night, or half the night, or a third of the night, and so doth a party of those with thee. But Allah doth appoint night and day in due measure He knoweth that ye are unable to

keep count thereof. So He hath turned to you (in mercy): read ye, therefore, of the Qur'an as much as may be easy for you. He knoweth that there may be (some) among you in ill-health; others travelling through the land, seeking of Allah's bounty; yet others fighting in Allah's cause, read ye, therefore, as much of the Qur'an as may be easy (for you); and establish regular Prayer and give zakat; and loan to Allah a beautiful loan. And whatever good ye send forth for your souls ye shall find it in Allah. Yea, better and greater, in reward and seek ye the grace of Allah: for Allah is oft-forgiving, most merciful.

اے نبیؐ، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی

رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے

ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے

اوقات کا حساب رکھتا ہے، اُسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں

کر سکتے، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو

پڑھ لیا کرو۔ اُسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ

اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ

کرتے ہیں۔ پس جتنا قرآن آسانی پڑھا جاسکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو

اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ

کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے

مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔

ऐ नबी, तुम्हारा रब जानता है कि तुम कभी दो-तिहाई रात के करीब और कभी आधी रात और कभी एक तिहाई रात इबादत में खड़े रहते हो, और तुम्हारे साथियों में से भी एक गरौह यह अमल करता है | अल्लाह ही रात और दिन के औकात का हिसाब रखता है, उसे मालूम है कि तुम लोग औकात का ठीक शुमार नहीं कर सकते, लिहाज़ा उसने तुमपर मेहरबानी फ़रमाई, अब जितना कुरआन आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ लिया करो | उसे मालूम है कि तुम में कुछ मरीज़ होंगे, कुछ दूसरे लोग अल्लाह के फजल की तलाश में सफ़र करते हैं और कुछ लोग अल्लाह की राह में जंग करते हैं | पस जितना कुरआन बा-आसानी पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो | नमाज़ कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह को अच्छा कर्ज़ देते रहो | जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के हाँ मौजूद पाओगे, वही ज़्यादा बेहतर है और उसका अज़्र बहुत बड़ा है | अल्लाह से मग़फ़िरत माँगते रहो, बेशक अल्लाह बड़ा गफूर व रहीम है |